



قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Allah, Blessed and High be He, said in His Book

“And hold fast unto the rope of Allah and  
be not disunited...”

The Holy Quran, Surah Aal Imraan (3): verse 103

# QURANIC VERSES ABOUT IMAM MAHDI (MAY ALLAH HASTEN HIS REAPPEARANCE)



## Table of Contents

Verse 1: Long Occultation.....	3
Verse 2: Revenge for Imam Husain (a.s.).....	7
Verse 3: Punishment for Disbelievers .....	9
Verse 4: The Star Which Hides.....	11
Verse 5: The Distressed One .....	14



## Verse 1: Long Occultation

Verse

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ

Translation

**“Say: Have you considered if your water should go down, who is it then that will bring you flowing water?”**

[Surah Mulk (67): Verse 30]

”اے میرے حبیب) آپ کہہ دیجئے! کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارا سارا پانی زمین کی تہہ میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لئے شیریں پانی کا چشمہ لائے گا؟“

[سورہ ملک (۶۷): آیت ۳۰]

Exegesis (Tafseer)

Ammar Yasir narrates that I was with the Holy Prophet (s.a.w.a.) in some of his battles when Imam Ali (a.s.) had killed the enemy flag-bearers, dispersed them, killed Amr Ibn Abdillah Jumahi and Shaibah Ibn Naafe', I came to the Messenger of Allah (s.a.w.a.) and said: "O Allah's Messenger! Salutations of Allah be upon you! Surely Ali (a.s.) is fighting in the way of Allah like one ought to fight." So Holy Prophet (s.a.w.a.) replied:



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

*"Because he is from me and I am from him. He is the inheritor of my knowledge, repayer of my debts, fulfiller of my promises, and the caliph after me. Had he not been there then the pure believers could never be identified. His battle is my battle and Allah's battle. Peace with him is peace with me and Allah. Know that he is the father of my two grandsons and the Imams. Allah, the High, will bring forth the Rightly-Guided Imams from his progeny and from them will be the Mahdi of this nation (Ummah)."*

Ammar said: "May my parents be sacrificed for you O Allah's Messenger! Who is this Mahdi?" He (s.a.w.a.) replied:

*"O Ammar! Surely Allah, Blessed and High be He, promised me that He will bring out nine (Imams) from the progeny of (Imam) Husain (a.s.) and the ninth of his descendants will be hidden from the people. That is the His word, Mighty and Majestic be He, **'Say: Have you considered if your water should go down, who is it then that will bring you flowing water?'** For him will be a long occultation in which a group of people will turn away (from religion) and a few others will remain steadfast. He will reappear in the last era and fill the earth with equity and justice. He will fight for the (true) interpretation (of Holy Quran) just as I fought for the (true) revelation. He will be my namesake and will resemble me the most among the people."*

[Kifaayah al-Athar, pp. 120-121]

## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

عمار یا سر نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت رسول خدا ﷺ کے ہمراہ بعض جنگوں میں موجود تھا جہاں علی علیہ السلام نے دشمنوں کے علمداروں کو قتل کیا، ان کے حلقہ کو بکھیر دیا اور عمرو بن عبد اللہ جمحی اور شیبہ بن نافع کو قتل کیا تھا۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ بیشک علی علیہ السلام تو اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کر رہے ہیں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔“ اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کیوں کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ وہ میرے علم کے وارث ہیں، میرے قرضوں کو ادا کرنے والے ہیں، میرے وعدوں کو پورا کرنے والے اور میرے بعد خلیفہ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو خالص مومن کی شناخت نہ ہو پاتی۔ ان کی جنگ میری جنگ اور اللہ کی جنگ ہے۔ ان کی امان میری اور اللہ کی امان ہے۔ یہ جان لو کہ وہ میرے نواسوں کے اور ائمہ علیہم السلام کے والد ہیں۔ انہیں کی صلب سے اللہ تعالیٰ ائمہ راشدین کو لائے گا اور انہیں میں سے اس امت کا مہدی ہو گا۔“ میں نے دریافت کیا: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! یہ مہدی کون ہے؟“ فرمایا: ”اے عمار! بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ حسین کی صلب سے ۱۹ افراد کو ظاہر کریگا اور



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

ان کی نسل کا نواں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا اور یہی اللہ عز و جل کا قول ہے کہ ”(اے میرے حبیب) آپ کہہ دیجئے! کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارا سارا پانی زمیں کی تہہ میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لئے شیریں پانی کا چشمہ لائے گا؟“ اُس کے لئے ایک طویل غیبت ہوگی جس میں کچھ گروہ (دین سے) گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ گروہ ثابت قدم رہیں گے۔ جب آخری زمانہ ہو گا تو وہ ظہور کریگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ وہ تاویل قرآن کے لئے اسی طرح جنگ کریگا جس طرح تنزیل قرآن کے لئے میں نے جنگ کی ہے۔ وہ میرا ہمنام ہو گا اور لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہو گا۔“

[کفایۃ الاثر، ص ۱۲۰-۱۲۱]



## Verse 2: Revenge for Imam Husain (a.s.)

Verse

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Translation

**“And do not kill any one whom Allah has forbidden, except for a just cause, and whoever is slain unjustly, We have indeed given to his heir authority, so he must not be extravagant in slaying; surely he is aided.”**

[Surah Bani Israel (17): Verse 33]

”اور کسی نفس کو، جسے خدا نے محترم بنایا ہے، ظالمانہ طریقے سے قتل نہ کرنا۔ اور جسے ناحق قتل کیا گیا، تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے پس اسے چاہئے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، اس کی ضرورت مدد کی جائے گی۔“

[سورہ بنی اسرائیل (۱۷): آیت ۳۳]

## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

### Exegesis (Tafseer)

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا قَالَا  
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا قَالَ هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قُتِلَ مَظْلُوماً  
وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ وَالْقَائِمُ مِنَّا إِذَا قَامَ طَلَبَ بِثَأْرِ الْحُسَيْنِ ع

Imam Muhammad Baqir (a.s.) said concerning this verse:

*"He is (Imam) Husain Ibn Ali (a.s.) who was slain unjustly, we are his successors and the Qaim (a.t.f.s.) is from us. When he rises, he will avenge the blood of Imam Husain (a.s.)."*

[Behaar al-Anwaar, vol. 44, p. 218, H. 7 narrating from Tafseer al-Ayyaashi]

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”وہ امام حسین بن علی علیہ السلام ہیں جو مظلوم شہید کئے گئے، اور ہم ان کے اولیاء ہیں اور قائم (عج) ہم میں سے ہیں۔ جب وہ قیام کریں گے تو امام حسین علیہ السلام کے خونِ ناحق کا انتقام لینگے۔“

[بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۱۸، ح ۷ نقل از تفسیر عیاشی]





## Verse 3: Punishment for Disbelievers

Verse

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسٌ مَّصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Translation

**“And if We hold back from them (disbelievers) the punishment until a numbered nation (comes), they will certainly say: What prevents it? Know that, on the day when it will come to them, it shall not be averted from them and that which they scoffed at shall beset them.”**

[Surah Hud (11): Verse 8]

” اور اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں ایک معین گروہ (کے آنے) تک تاخیر کر دیں تو وہ ضرور یہ طنز کریں گے کہ کون سی چیز نے اُسے روک رکھا ہے؟ جان لو کہ جس دن وہ آئے گا تو پھر وہ اُن سے دور نہیں کیا جائے گا اور پھر وہ اُن کو ہر طرف سے گھیر لیگا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔“

[سورہ ہود (۱۱): آیت ۸]



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

### Exegesis (Tafseer)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ قَالِ الْعَذَابُ خُرُوجُ الْقَائِمِ ع وَالْأُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرِ وَ أَصْحَابِهِ

Imam Ja'far Sadiq (a.s.) said concerning this verse:

*"The punishment (for the disbelievers) is the reappearance of the Qaim (a.t.f.s.) and the numbered nation is the number of people in Badr i.e., 313, and they are his companions."*

[Al-Ghaibah by Ibn Abi Zainab No'mani, p. 241, H. 36]

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”عذاب سے مراد حضرت امام مہدی (عج) کا ظہور ہے۔ یعنی ان کا ظہور منکروں کے لئے عذاب کے مانند ہوگا۔ اور معین گروہ سے مراد اہل بدر کی تعداد (یعنی ۳۱۳ افراد) ہے اور وہ ان کے اصحاب ہیں۔“

[غیبت نعمانی، ص ۲۴۱، ح ۳۶۶]



## Verse 4: The Star Which Hides

Verse

فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنُوسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٤)  
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩)

Translation

**“But nay! I swear by the stars. That run their course (and) hide themselves. And the night when it departs. And the morning when it brightens. Most surely it is the Word of an honored messenger.”**

[Surah Takveer (81): Verses 15-19]

”تو میں اُن ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو چمک جاتے والے ہیں۔ چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے۔ اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے۔ بے شک یہ ایک مُعزز فرشتے کا بیان ہے۔“

[سورۃ تکویر (٨١): آیت ١٥-١٩]

Exegesis (Tafseer)

عَنْ أَمِّ هَانِئِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ غَدَوْتُ عَلَى سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع  
فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَرَضَتْ بِقَلْبِي فَأَقْلَقْتَنِي وَ



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

أَسْهَرَتْ لَيْلِي قَالَ فَسَلِّي يَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ قُلْتُ يَا سَيِّدِي قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ قَالَ نَعَمْ الْمَسْأَلَةُ سَأَلْتَنِي يَا أُمَّ هَانِي  
 هَذَا مَوْلُودٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ هُوَ الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الْعِثْرَةِ تَكُونُ لَهُ حَيْرَةٌ وَ  
 غَيْبَةٌ يَضِلُّ فِيهَا أَقْوَامٌ وَيَهْتَدِي فِيهَا أَقْوَامٌ فَيَأْطُوبِي لَكَ إِنْ أَذْرُكْتِيهِ وَيَا  
 طُوبَى لِمَنْ أَذْرَكَهُ

Umm Haani Saqafiyah narrates that one day I went to my master Imam Muhammad Ibn Ali al-Baqir (a.s.) and asked him: "My master! There is a verse in the book of Allah, Mighty and Majestic be He, which has troubled my heart and made me stay awake the whole night." Imam (a.s.) responded, "Ask me O Umm Haani." She said: "My master! It is the word of Allah, Mighty and Majestic be He, **'But nay! I swear by the stars. That run their course (and) hide themselves.'**"

Imam (a.s.) replied:

*"What a good question you have asked me O Umm Haani! This is a child in the last era and he is the Mahdi from this progeny. There will be bewilderment and an occultation for him in which some groups will get deviated while some groups will be guided. So, glad tidings to you if you reach that time and glad tidings to the one who reaches that time."*

[Kamaal al-Deen, vol. 1, p. 330, H. 14]



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

ام ہانی تفسیر سے منقول ہے کہ ایک دن میں اپنے آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا: اے میرے سید! اللہ عز و جل کی کتاب میں ایک آیت ہے جس نے میرے دل کو پریشان کر رکھا ہے اور مجھے رات بھر جگایا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: ”پوچھو اے ام ہانی۔“ اس نے پوچھا: ”اے میرے سید! وہ اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ ”تو میں اُن ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں۔ چلنے والے اور ٹھپ جانے والے ہیں۔“ امام علیہ السلام نے فرمایا:

”اے ام ہانی! تم نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اے ام ہانی، یہ آیت آخری زمانے کے ایک مولود کے بارے میں ہے۔ وہ اس عترت کا مہدی ہو گا۔ اُس کے لئے سرگردانی اور غیبت ہو گی جس میں کچھ قومیں گمراہ ہو جائیں گی اور کچھ ہدایت پائیں گی۔ پس طوبیٰ ہے (یعنی خوش خبری ہے) تمہارے لئے اگر تم اُن کا زمانہ پاؤ اور طوبیٰ ہے اُس کے لئے جو اُن کا زمانہ پائے۔“

[کمال الدین، ج ۱، ص ۳۳۰، ح ۱۴]



## Verse 5: The Distressed One

Verse

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

Translation

**“Or, Who answers the distressed one when he calls upon Him and removes the evil, and He will make you successors in the earth.”**

[Surah Naml (27): Verse 62]

”بھلا وہ کون ہے جب مضطرب سے پکارتا ہے تو وہ اُس کی فریاد کو سنتا ہے اور اُس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔“

[سورہ نمل (۲۷): آیت ۶۲]

Exegesis (Tafseer)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع. هُوَ وَاللَّهُ الْمُضْطَّرُّ إِذَا صَلَّى فِي الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ - وَدَعَا اللَّهَ فَأَجَابَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

Imam Ja'far Sadiq (a.s.) said:



## Quranic Verses About Imam Mahdi (a.t.f.s.)

*“This verse was revealed about the Qaim (a.t.f.s.) from the progeny of Muhammad (s.a.w.a.). By Allah, he is the distressed one. When he will recite a two-unit prayer at the place (of Prophet Ibrahim (a.s.)) and pray to Allah, He will answer him, repel his problem and make him the Caliph in the earth.”*

[Tafseer al-Qummi, vol. 2, p. 130]

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”یہ آیت حضرت امام مہدی (عج) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، وہی مضطر ہیں کہ جب وہ مقام ابراہیم پر دور کعت نماز ادا کریں گے اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو مستجاب کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا اور انہیں زمین پر خلیفہ قرار دے گا۔“

[تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۳۰]